


سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يُغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

محسن نجفی

رتبہ اول در بخش ترقیل



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

احمد رضا دہاتی راد

رتبہ دوم در بخش ترقیل



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّهُذَا الْقُرْآنُ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يُغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

محمد شیری

رتبہ سوم در بخش ترتیل



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

عرفان مزارعی

رتبہ شایستہ تقدیر در بخش ترتیل



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

امیر حسین کاظمی اصل

رتبہ شایستہ تنذیر در بخش ترتیل



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يُغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

محبی شکرانہ

رتبہ اول در بخش تحقیق



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يُغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

مجتبی سمعی

رتبہ دوم در بخش تحقیق



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يُغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

مدی سنج علیشاہی

رتبہ سوم در بخش تحقیق



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
وسخن گوئی است کہ دروغ نمی گوید.

امیر رضاحسی

رتبہ شایستہ تقدیر در بخش تحقیق



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

محمد رضایی

رتبہ اول در بخش ادان



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

امیر حسین قناعتی

رتبہ دوم در بخش ادان



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يُغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

علی قلندری

رتبہ سوم در بخش اداں



کمیسیون عترت

سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
وسخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

محمد صالح غنای

رتبہ اول در بخش دعاخوانے



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يُغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

محمد عرفان کشاورز

رتبہ اول دربخش مداحہ



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يُغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

سارہ تافرد

رتبہ اول در بخش ترقیل



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

نرخس فرومیدہ

رتبہ دوم در بخش ترقیل



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

زہرا عباسی نژاد

رتبہ سوم در بخش ترتیل



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

فاطمہ سادات مظلومی

رتبہ شایستہ تنذیر در بخش ترتیل



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يُغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

فروع علیقی

رتبہ اول در بخش تحقیق



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

مہسا پر مو

رتبہ دوم در بخش تحقیق



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

سعدہ ساکی

رتبہ اول در بخش دعاخوانی



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
وسخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

فاطمہ کیوانی

رتبہ دوم در بخش دعاخوانی



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
وسخن گوئی است کہ دروغ نمی گوید.

ہائے رسی

رتبہ اول دربخش مداحے



سے وھشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَن هَذَا الْقُرْآنُ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يُغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ وھدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
وسخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

امینہ فیروز سکری

رتبہ اول دربخش ایدہ پدازی قرآن



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يُغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

زہرا آستی

رتبہ سوم در بخش ایدہ پزدازی قرآن



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

حسین رحمانی پیروز

رتبہ اول دربخش فناوری پلاکست



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يُغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

فاطمہ نوروزی

رتبہ دوم در بخش فناوری پلاکست



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يُغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

امینہ فیروز سکری

رتبہ سوم در بخش فناوری پلاکست



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

علیرضا سحرابی

رتبہ اول در بخش فناوری تولید برنامہ کاربردی تلفن همراه



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

آزادہ حق شناس

رتبہ اول دربخش ہنری طراحہ پیوستہ



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يُغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
وسخن گوئی است کہ دروغ نمی گوید.

زہرا آزم

رتبہ دوم مشترک در بخش هنری طراحے پوستر



دانشگاه سindh

دانشگاه سindh
معاونت فرہنگی اجتماع

کونسل عترت



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يُغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
وسخن گوئی است کہ دروغ نمی گوید.

سونارسی

رتبہ دوم مشترک دربخش هنری طراحے پوستر



سے وہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ وهدایت گری است کہ گمراه نمی سازد؛
وسخن گوئی است کہ دروغ نمی گوید.

سنا زارعی

رتبه سوم مشترک در بخش هنری طراحے پوستر



دانشگاه سندھ

دانشگاه سندھ
معاونت فرہنگی و اجتماعی

کونسل عترت



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يُغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

سابلیلی

رتبہ سوم مشترک در بخش هنری طراحے پوستر



سے وہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يُغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ وهدایت گری است کہ گمراه نمی سازد؛
وسخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

زہرا بلیدار

رتبہ شایستہ نقدیہ در بخش هنری طراحے پوستہ



دانشگاه سندھ

دانشگاه سندھ
معاونت فرہنگی اجتماعی

کمیٹی ترتیب عترت



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

زہرہ کاتوزیان

رتبہ شایستہ تقدیر در بخش هنری طراحے پوستر



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يُغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

زینب مقیمی

رتبہ شایستہ تقدیر در بخش هنری طراحے پوستر



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

طاہرہ رضایی

رتبہ اول در بخش هنری نقاشی



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

علی اصغر عفوری

رتبہ شایستہ تقدیر در بخش هنری نقاشی



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يُغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

فائزہ نادی نژاد

رتبہ سوم در بخش **ہنری** **تذہیب**



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يُغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

محمد حسن رحم دار

رتبہ اول مشترک در بخش ہنری خوشنویسے



سے وھشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَن هَذَا الْقُرْآنُ هُوَ الْبَصِيحُ الَّذِي لَا يُغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ وھدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
وسخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

آرین محزون

رتبہ اول مشترک دربخش هنری خوشنویسے



سے وھشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَن هَذَا الْقُرْآنُ هُوَ الْبَيِّنَاتُ لِمَنْ لَا يُغْشَىٰ، وَالْهَادِي إِلَىٰ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ وھدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
وسخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

علی حدیری

رتبہ دوم در بخش هنری خوشنویسے



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

فاطمہ زال

رتبہ سوم در بخش **هنری** خوشنویسے



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
وسخن گوئی است کہ دروغ نمی گوید.

مریم سیانی

رتبہ شایستہ تقدیر در بخش هنری خوشنویسے



دانشگاه سندھ

دانشگاه سندھ
معاونت فرہنگی اجتماعی

کونسل عترت



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

محمد محمدی

رتبہ سوم در بخش هنری فیلم کوتاه



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

فاطمہ فیلونڈی

رتبہ شایستہ نقادین در بخش هنری فیلم کوناه



سے وھشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّهُ هَذَا الْقُرْآنُ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ وھدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
وسخن گوئی است کہ دروغ نمی گوید.

مانہ زارع

رتبہ اول دربخش ادبے داستان نویسے



سے وھشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّهُذَا الْقُرْآنُ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ وھدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
وسخن گوئی است کہ دروغ نمی گوید.

بیدا کر می

رتبہ دوم در بخش ادبے داستان نویسے



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

سارہ حسن زادہ

رتبہ سوم در بخش ادبے داستان نویسے



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

فاطمہ حسین پور

رتبہ شایستہ تقدیر در بخش ادبے داستان نویسے



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يُغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

پیمان ربیعی

رتبہ اول در بخش ادبے شعر



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

علی اصغر عفوری

رتبہ شایستہ نقدیہ در بخش ادبیہ شعر



سے وہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ وهدایت گری است کہ گمراه نمی سازد؛
وسخن گوئی است کہ دروغ نمی گوید.

محمد محمدی

رتبہ شایستہ تقدیر در بخش ادبی فیلمنامہ نویسی



سے وہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ وهدایت گری است کہ گمراه نمی سازد؛
وسخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

فاطمہ حسین پور

رتبہ شایستہ تقدیر در بخش پژوهشے نقد کتاب



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

سیدہ بانہ مومن

رتبہ اول در بخش پژوهشہ مقلہ نویسہ



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

امیر فرخندہ

رتبہ دوم در بخش پژوهشہ مقالہ نویسہ



سے وہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ وهدایت گری است کہ گمراه نمی سازد؛
وسخن گوئی است کہ دروغ نمی گوید.

جلال محمدی

رتبہ سوم دربخش پژوهشے مقالہ نویسے



دانشگاه سindh

دانشگاه سindh
معاونت فرہنگی اجتماع

کونسل عترت



سے وہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشُّ، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ وهدایت گری است کہ گمراه نمی سازد؛
وسخن گوئی است کہ دروغ نمی گوید.

علی اکبری ساعی داور زن

رتبه شایسته تقدیر در بخش پژوهش مقاله نویسی



سے وھشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّهُ هَذَا الْقُرْآنُ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ وھدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
وسخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

سیدہ محبوبہ کشفی

رتبہ دوم دربخش نہج البلاغہ مقالہ نویسے



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
وسخن گوئی است کہ دروغ نمی گوید.

امیر فرخندہ

رتبہ شایستہ تقدیر در بخش **نہج البلاغہ** مقالہ نویسے



سے وھشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّهُذَا الْقُرْآنُ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشُّ، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ وھدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
وسخن گوئی است کہ دروغ نمی گوید.

زہرا آتشی

رتبہ سوم در بخش صحیفہ سجادیہ مقالہ نویسے



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

ایرج محمودی

رتبہ دوم در بخش ترجمہ و تفسیر قرآن کریم



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يُغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

سمہ فاتحی

رتبہ اول دربخش پیرسمن معارف



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

فاطمہ علی پور

رتبہ دوم در بخش پیرسمن معارف



سے وہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يُغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ وهدایت گری است کہ گمراه نمی سازد؛
وسخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

سکینہ طالب زادہ

رتبہ سوم دربخش پیرسمن معارف



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

احمد قاسمی

رتبہ اول در بخش احکام



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يُغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

نسیم سجانی نیکو

رتبہ دوم در بخش احکام



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

راستین دستکار

رتبہ سوم در بخش احکام



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يُغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

سینا شصتی

رتبہ اول در بخش حفظ فرازہای نہج البلاغہ



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يُغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

حانیہ سخی

رتبہ دوم در بخش حفظ فرازهای نہج البلاغہ



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

صدیقہ آموزگار

رتبہ سوم در بخش حفظ فرازہای نہج البلاغہ



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يُغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

رضا سالمی

رتبہ شایستہ تقدیر در بخش حفظ فرازهای نہج البلاغہ



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

زہرا حدیسی

رتبہ شایستہ تقدیر در بخش حفظ فرازہای نہج البلاغہ



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

ایرج محمودی

رتبہ اول در بخش معارف نہج البلاغہ



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يُغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

محبی شکرانہ

رتبہ دوم دربخش معارف نہج البلاغہ



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

مریم سیبانی تدریجی

رتبہ سوم در بخش معارف نہج البلاغہ



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يُغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

زہرا قاسمی

رتبہ شایستہ تقدیر در بخش معارف نہج البلاغہ



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يُغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

سینا شعبی

رتبہ اول در بخش حفظ فرازہای صحیفہ سجادیہ



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يُغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

مریم ترکمن

رتبہ اول در بخش معارف صحیفہ سجادیہ



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

سجاد رضایان

رتبہ دوم در بخش معارف صحیفہ سجادیہ



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يُغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

نسرین فاتحی

رتبہ اول در بخش سپر معصومین علیہم السلام



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يُغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

زہرا قاسمی

رتبہ اول در بخش حفظ و مفہیم احادیث معصومین علیہم السلام



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
وسخن گوئی است کہ دروغ نمی گوید.

شیما سفندیاری

رتبہ دوم در بخش حفظ و مفہیم احادیث معصومین علیہم السلام



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

مشید آردی

تہ سوم در بخش حفظ و مفاہیم احادیث معصومین علیہم السلام



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

سارہ تافرد

رتبہ اول در بخش حفظ و مفہیم قرآن کریم



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
وسخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

ماندانا پرستندہ خیال

رتبہ دوم دربخش حفظ و مفاہیم قرآن کریم



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

زہرا طالبی

رتبہ سوم در بخش حفظ و مفہیم قرآن کریم



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
وسخن گوئی است کہ دروغ نمی گوید.

مریم حسین پور

رتبہ شایستہ نقادیر در بخش حفظ و مفہیم قرآن کریم



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گوئی است کہ دروغ نمی گوید.

زہرا طالبی

رتبہ اول در بخش حفظ کل قرآن کریم



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يُغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

سیدہ معصومہ دستغیب

رتبہ اول در بخش حفظ ۲ جزء قرآن کریم



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يُغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

رضا سالمی

رتبہ اول در بخش حفظ اجزء قرآن کریم



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يُغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

علی وقار

رتبہ شایستہ تقدیر در بخش حفظ اجزء قرآن کریم



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

منصورہ نعمتی

رتبہ اول دربخش حفظہ جزء قرآن کریم



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

محمد زارعی

رتبہ دوم در بخش حفظہ جزء قرآن کریم



سے و ہشتمیں جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يُغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

حانیہ سخی

رتبہ اول در بخش نماز



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

سیدہ بانہ مؤمن

رتبہ دوم در بخش نماز



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

سجاد رضایان

رتبہ سوم در بخش نماز



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يُغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

زہرا منفرد

رتبہ شایستہ تقدیر در بخش نماز



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يُغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

سیدہ محبوبہ کشفی

رتبہ اول در بخش مقالہ نویسی



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يُغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

سارہ تافرد

رتبہ اول دربخش ترتیل خواهران



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

مائدہ رضایی

رتبہ دوم در بخش ترتیل خواہران



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يُغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

منصور حدیری

رتبہ سوم در بخش ترتیل برادران



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

امیر رضا حسنی

رتبہ شایستہ تقدیر در بخش تحقیق بہادران



سے و ہشتمیں جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

نذاحدری

رتبہ اول دربخش حفظ



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گوئی است کہ دروغ نمی گوید.

زہرا طالبی

رتبہ دوم در بخش حفظ



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

نعمہ سقایی

رتبہ سوم در بخش حفظ



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

صدیقہ دانش فروز

رتبہ شایستہ تقدیر در بخش حفظ



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يُغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

راضی مہتر

رتبہ شایستہ تقدیر در بخش حفظ



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

نسیم ہراتیان

رتبہ دوم در بخش عکاسی



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يُغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

فائزہ نعمت اللمی

رتبہ سوم در بخش عکاسی



سے وھشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَن هَذَا الْقُرْآنُ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يُغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ وھدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
وسخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

علی حدیری

رتبہ اول دربخش خوشنویسے



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يُغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
وسخن گوئی است کہ دروغ نمی گوید.

آرین محزون

رتبہ دوم در بخش خوشنویسی



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

زہرا امیری

رتبہ سوم در بخش نقاشی



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يُغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

محمد محمدی

رتبہ دوم در بخش کلیپ



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

فاطمہ مراد پور

رتبہ شایستہ تقدیر در بخش کلیپ



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يُغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

زہرا قاسمی

رتبہ شایستہ تقدیر در بخش داستان کونہ



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

سیمین مصدق

رتبہ اول در بخش شعر



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

عاطف جوشقیان

رتبہ دوم در بخش شعر



سے و ہشتمین جشنوارہ قرآن و عترت دانشجوین

وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يُغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ.
بدانید کہ این قرآن پندآموز است کہ خیانت نمی کند؛ و ہدایت گری است کہ گمراہ نمی سازد؛
و سخن گویی است کہ دروغ نمی گوید.

سیمین مصدق

رتبہ سوم در بخش شعر

